



نبی ﷺ صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی اور پہلی دو رکعتوں پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، اور مقتدی لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جب نماز ختم ہونے والی تھی اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے تو آپ نے ”اللہ اکبر“ کہا اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے، پھر سلام پھیرا

عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، نے بیان کیا کہ نبی ﷺ انہیں ظہر کی نماز پڑھائی اور پہلی دو رکعتوں پر بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو گئے چنانچہ سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ جب نماز ختم ہونے لگی اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے، تو آپ نے ”اللہ اکبر“ کہا اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا

[صحیح] [متفق علیہ]

نبی ﷺ صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی جب پہلی دو رکعتیں پڑھ چکے، تو ان کے بعد تشهد اول کے لیے بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو گئے مقتدیوں نے بھی آپ کی اقتدا کی یہاں تک کہ جب آخری دو رکعتیں پڑھ کر آخری تشهد کے لیے بیٹھ کر دعائے تشهد سے فارغ ہو گئے اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے، تو بیٹھنے کی حالت میں آپ نے ”اللہ اکبر“ کہا، پھر لوگوں کے ساتھ سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے سجدوں کی طرح دو سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا یہ دونوں سجدے (در اصل) چھوٹے ہونے تشهد کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تھے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3089>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

